

# Num

## Chapter 18

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וַיֹּאמֶר	יְהוָה	אֶל-	אֶהְרֹן	אֶתְּהָ	וַיִּבְנֶיךָ	וַיְבִית-	אֶבְיֶיךָ	אֶתְּךָ	תְּשָׂאוּ	אֶת-
	اور-کہا	یہوواہ-نے	سے	بارون	تو	اور-تیرے-بیٹے	اور-گھر	تیرے-باب	تیرے-ساتھ	اُٹھاؤ	کو
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0175</a>				<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H0853</a>
	עֶזְרָא	הַמִּקְדָּשׁ	וְאֶתְּהָ	וַיִּבְנֶיךָ	אֶתְּךָ	תְּשָׂאוּ	אֶת-	עֶזְרָא	כְּהֹנָתִים:		
	گناہ	مقدس-مقام-کا	اور-تو	اور-تیرے-بیٹے	تیرے-ساتھ	اُٹھاؤ	کو	گناہ	تمہاری-کہانت-کا		
	<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H4720</a>			<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H3550</a>		

اسی گے۔ ٹھہرو قصوروار تم تو جائے ہو غلطی کوئی میں اس اگر ہے۔ داری ذمہ کی قبیلے کے لای اور بیٹوں تیرے تیری، [مقدس کہا، سے بارون نے رب گے۔ ٹھہریں قصوروار بیٹے تیرے اور تو جائے ہو غلطی کوئی میں اس اگر ہے۔ داری ذمہ کی بیٹوں تیرے اور تیری صرف خدمت کی اماموں طرح

2	וְגַם	אֶת-	אֶחָיֶךָ	מִזֵּה	לָוִי	שִׁבְט	אֶבְיֶיךָ	הַקָּרֵב	אֶתְּךָ	וַיִּלְווּ
	اور-بھی	کو	تیرے-بھائیوں	قبیلے	لاوی-کے	قبیلے	تیرے-باب-کے	نزدیک-لا	تیرے-ساتھ	اور-وہ-میلیں
	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H3878</a>	<a href="#">H7626</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H0854</a>	
	עֲלֶיךָ	וְיִשְׁרָתוּךָ	וְאֶתְּהָ	וַיִּבְנֶיךָ	אֶתְּךָ	לְפָנַי	אֶת-	הָעֵדוּת:		
	تجھ-سے	اور-تیری-خدمت-کریں	اور-تو	اور-تیرے-بیٹے	تیرے-ساتھ	سامنے	خیمے	شہادت-کے		
		<a href="#">H8334</a>			<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H5715</a>		

تم جب کریں خدمت کی بیٹوں تیرے اور تیری وہ کہ لیں حصہ یوں کر مل ساتھ تیرے وہ دے۔ آنے قریب میرے بھی کو آدمیوں باقی کے لای قبیلے اپنے گے۔ نہاؤ داریاں ذمہ اپنی سامنے کے خیمے

3	וְשָׂמְרוּ	מִשְׁמֶרְתְּךָ	וּמִשְׁמֶרֶת	כָּל-	הָאֶהָל	אֶתְּךָ	אֶל-	כָּלִי	הַקֹּדֶשׁ	וְאֶל-
	اور-محفوظ-رکھیں	تیری-حفاظت	اور-حفاظت	تمام	خیمے-کی	لیکن	پاس	برتنوں	مقدس-مقام-کے	اور-پاس
	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H4931</a>	<a href="#">H4931</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H0389</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H0413</a>
	הַמִּזְבֵּחַ	לֹא	יִקְרְבוּ	וְלֹא-	יָמִתוּ	גַם-	גַם-	אֶתְּם:		
	قربانگاہ	نہیں	نزدیک-آئیں	اور-نہ	مریں	بھی	وہ	بھی	تم	
	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H1992</a>			

وہ صرف نہ ورنہ جائیں، نہ قریب کے گاہ قربان اور سامان مقدس و مخصوص کے خیمے وہ لیکن ہے۔ داری ذمہ کی ان خدمت میں خیمے اور خدمت تیری گا۔ جائے ہو بلاک بھی تو بلکہ

4	וַיִּלְווּ	עֲלֶיךָ	וְשָׂמְרוּ	אֶת-	מִשְׁמֶרֶת	אֶהָל	מוֹעֵד	לְכֹל	עֲבֹדַת	הָאֶהָל
	اور-میلیگے	تجھ-سے	اور-محفوظ-رکھیں	کو	حفاظت	خیمے	ملاقات-کے	تمام-کے-لیے	خدمت	خیمے-کی
	<a href="#">H8104</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H4931</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H0168</a>
	וְזָר	לֹא-	יִקְרַב	אֲלֵיכֶם:						
	اور-اجنبی	نہ	نزدیک-آئے	تمہارے-پاس						
		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H0413</a>						

ہے۔ نہیں اجازت کی کرنے ایسا کو اور کسی لیکن لیں۔ حصہ میں کام پورے کے خیمے کے ملاقات کر مل ساتھ تیرے وہ یوں

5	וְשָׂמְרוּ	אֶת-	מִשְׁמֶרֶת	הַקֹּדֶשׁ	וְאֶת	מִשְׁמֶרֶת	הַמִּזְבֵּחַ	וְלֹא-	יְהִי	עֹד
	اور-محفوظ-رکھو	کو	حفاظت	مقدس-مقام-کی	اور-کو	حفاظت	قربانگاہ-کی	اور-نہ	ہوگا	بھر
	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4931</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4931</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H5750</a>
	קָדַח	עַל-	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל:						
	غضب	پر	بیٹوں	اسرائیل-کے						
				<a href="#">H3478</a>						

بھڑکے۔ نہ پر اسرائیلیوں دوبارہ غضب میرا تاکہ کریں بھال دیکھ کی گاہ قربان اور مقدس بیٹے تیرے اور تو صرف

6	וַאֲנִי	הִנֵּה	לְקַחְתִּי	אֶת־	אֲחִיקָם	הַלְוִיִּם	מִתּוֹךְ	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	לָגֹם	מִתְּנָה
	اور-میں	دیکھو	لیا	کو	تمہارے-بھائیوں	لاویوں	درمیان-سے	بیٹوں-کے	اسرائیل	تمہارے-لیے	تحفہ
	H0589	H2009	H3947	H0853	H0251	H3881	H8432		H3478		H4979
	נָתַנִּים	לִיהוָה	לְעֹבֵד	אֶת־	עֲבֹדָת	אֱהָל	מוֹעֵד:				
	دیے-گئے	یہوواہ-کو	خدمت-کرنے-کو	کو	خدمت	خیمے	ملاقات-کے				
	H5414	H3068	H5647	H0853	H5656	H0168	H4150				

خدمت میں خیمے تاکہ ہیں مخصوص لئے کے رب وہ ہے۔ دیا پر طور کے تحفے تجھے کر چن کو لاویوں یعنی بھائیوں تیرے سے میں اسرائیلیوں نے ہی میں کریں۔

7	וְאֵתָה	וּבְנֵיךָ	אֶתָךְ	תִּשְׁמְרוּ	אֶת־	כְּהִנְתְּכֶם	לְכֹל־	דְּבַר	הַמִּזְבֵּחַ
	اور-تو	اور-تیرے-بیٹے	تیرے-ساتھ	محفوظ-رکھو	کو	تمہاری-کہانت	تمام-کے-لیے	معاملے	قربانگاہ-کے
			H0854	H8104	H0853	H3550	H3605	H1697	H4196
	וְלִמְבֵּית	לְפָרֶכֶת	וְעֹבְדֹתָם	עֲבֹדָת	מִתְּנָה	אֶתָן	אֶת־	כְּהִנְתְּכֶם	וְהִזָּר
	اور-اندر	پردے-کے	اور-خدمت-کرو	خدمت	تحفے-کی	میں-دیتا-ہوں	کو	تمہاری-کہانت	اور-اجنبی
		H6532	H5647	H5656	H4979	H5414	H0853	H3550	

הַקָּרֵב: יוֹמָת: ס  
 نزدیک-آنے-والا مارا-جانے-گا س  
 H7126 H4191

چیزوں مقدس اور گاہ قربان اور کوئی ہوں۔ دیتا پر طور کے تحفے عہدہ کا امام تمہیں میں دیں۔ سرانجام خدمت کی امام بیٹے تیرے اور تو صرف لیکن جائے۔ دی موت سزائے اُسے ورنہ آئے، نہ نزدیک کے

8	וַיִּדְבֶּר	יְהוָה	אֵל־	אֶהְרֹן	וְאֲנִי	הִנֵּה	נָתַתִּי	לָךְ	אֶת־	מִשְׁפַּרְת	תְּרוֹמַתִּי
	اور-بولتا	یہوواہ-نے	سے	بارون	اور-میں	دیکھو	دیا	تجھے	کو	حفاظت	میرے-بدیوں-کی
	H1696	H3068	H0413	H0175	H0589	H2009	H5414		H0853	H4931	H8641
	לְכֹל־	קְדָשִׁי	בְּנֵי־	יִשְׂרָאֵל	לָךְ	נָתַתִּים	לְמִשְׁחָה	וּלְבְנֵיךָ			
	تمام-کے-لیے	مقدس-چیزوں	بیٹوں-کے	اسرائیل	تجھے	میں-نے-دیے	مسح-کے-لیے	اور-تیرے-بیٹوں-کے-لیے			
	H3605	H6918		H3478		H5414					
	לְחֶק־	עוֹלָם:									
	قانون-کے-طور-پر	ابدی									
	H2706	H5769									

حصہ کا اولاد تیری اور تیرا سے میں قربانیوں تک ہمیشہ یہ ہوں۔ حصہ تیرا قربانیاں والی اٹھانے تمام کہ بے کیا مقرر خود نے میں کہا، سے بارون نے رب ہیں۔

9	יָהּ	יְהוָה	לָךְ	מִקְדָּשׁ	הַקְּדָשִׁים	מִן־	הָאֵשׁ	כָּל־	קָרְבָּנִם	לְכֹל־
	یہ	بوگا	تیرے-لیے	مقدس-چیزوں-سے	بہت-مقدس	سے	آگ	بر	ان-کی-قربانی	تمام-کے-لیے
	H2088	H1961		H6944	H6944		H0784	H3605		H3605
	מִנְחָתָם	וּלְכֹל־	וּלְכֹל־	חֲטָאתָם	וּלְכֹל־	אֲשֶׁר	יָשִׁיבוּ			
	ان-کا-نذر-کا-بدیہ	اور-تمام-کے-لیے	اور-تمام-کے-لیے	ان-کی-گناہ-کی-قربانی	اور-تمام-کے-لیے	ان-کی-قصور-کی-قربانی	جو			
	H4503	H3605		H3605		H0817	H7725			
	לִי	קְדָשׁ	קְדָשִׁים	לָךְ	הוּא	וּלְבְנֵיךָ:				
	مجھے	مقدس	بہت-مقدس	تیرے-لیے	یہ	اور-تیرے-بیٹوں-کے-لیے				
		H6944	H6944		H1931					

گناہ نذریں، کی غلہ مجھے وہ خواہ ہے، ملنا حصہ وہی کو بیٹوں تیرے اور تجھے ہاں، جاتا۔ نہیں جلا یا جو بے ملنا حصہ وہ کا قربانیوں ترین مقدس تمہیں کریں۔ پیش قربانیاں کی قصور یا قربانیاں کی

בְּקֹדֶשׁ	הַקֹּדֶשִׁים	תֹּאכְלֵנּוּ	כָּל-	זָכַר	יֹאכֵל	אֲתוּ	קֹדֶשׁ	יְהוָה	לֵךְ:
مقدس-مقام میں	بہت-مقدس	تو-کھائے	ہر	مرد	کھائے	اُسے	مقدس	یہوواہ	تیرے-لیے
<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2145</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H1961</a>	

بے مُقدس و مخصوص وہ کہ رکھ خیال ہے۔ سکتا کھا اُسے مرد ہر کھانا۔ پر جگہ مُقدس اُسے

זָה-	לֵךְ	תְּרוּמַת	מִתְנֵם	לְכָל-	תְּנוּפֹת	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	לֵךְ
اور-یہ	تیرے-لیے	بدیہ	اُن-کے-تحفے-کا	تمام-کے-لیے	بلانے-کی-قربانیوں	بیٹوں-کے	اسرائیل	تجھے
<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H4976</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8573</a>	<a href="#">H3478</a>		

נְתָתִים	וּלְבִנְיָךְ	וּלְבִנְתֶיךָ	אֶתְךָ	לְחֶק-	עוֹלָם	כָּל-	טְהוֹר
میں-نے-دیے	اور-تیرے-بیٹوں-کے-لیے	اور-تیری-بیٹیوں-کے-لیے	تیرے-ساتھ	قانون-کے-طور-پر	ابدی	ہر	پاک
<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H2706</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2889</a>	

בְּבִיתְךָ יֹאכֵל אֲתוּ:  
تیرے-گھر-میں کھائے اُسے  
[H0398](#) [H0853](#)

ہر کا گھرانے تیرے ہے۔ حصہ کا بیٹیوں بیٹے تیرے اور تیرے لئے کے ہمیشہ یہ ہے۔ تیرا حصہ ہوا اُنھایا کا قربانیوں والی بلانے تمام کہ ہے کیا مقرر نے میں ہو۔ پاک وہ کہ ہے یہ شرط ہے۔ سکتا کھا اُسے فرد

כָּל	חֶלֶב	יֶזְעֵר	וְכָל-	חֶלֶב	תִּירוֹשׁ	וְדָבָר	רֵאשִׁיתָם	אֲשֶׁר-	יִתְנוּ	לְיהוָה	לֵךְ
تمام	چربی	تیل-کی	اور-تمام	چربی	نئی-مے-کی	اور-غُلے	اُن-کی-پہلین	جو	دیگے	یہوواہ-کو	تجھے
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2459</a>	<a href="#">H3323</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2459</a>	<a href="#">H8492</a>	<a href="#">H1715</a>	<a href="#">H7225</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3068</a>		

נְתָתִים:

میں-نے-دیے  
[H5414](#)

ہو۔ دیتا حصہ بہترین کا اناج اور مے نئی تیل، کے زیتون تجھے میں گا۔ ہو حصہ ہی تیرا وہ تو گے کریں پیش پھل پہلا کا فصلوں اپنی کو رب لوگ جب

בְּפוֹרֵי	כָּל-	אֲשֶׁר	בְּאַרְצָם	אֲשֶׁר-	יָבִיאוּ	לְיהוָה	לֵךְ	יְהוָה	כָּל-	טְהוֹר
پہلے-پھل	تمام-کے	جو	اُن-کی-سرزمین-میں	جو	لائیگے	یہوواہ-کو	تیرے-لیے	یہوواہ	ہر	پاک
<a href="#">H1061</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2889</a>			

בְּבִיתְךָ יֹאכְלֵנּוּ:  
تیرے-گھر-میں کھائے  
[H0398](#)

ہے۔ سکتا کھا اُسے فرد پاک ہر کا گھرانے تیرے گا۔ ہو ہی تیرا وہ گے کریں پیش کو رب وہ پھل پہلا بھی جو کا فصلوں

כָּל-	חֶרֶם	בְּיִשְׂרָאֵל	לֵךְ	יְהוָה:
ہر	حرام-کی-گنی-چیز	اسرائیل-میں	تیرے-لیے	ہوگی
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H1961</a>		

گی۔ ہو تیری وہ ہے گنی کی مُقدس و مخصوص لئے کے رب چیز بھی جو میں اسرائیل

כָּל-	פֶּטֶר	רְחֵם	לְכָל-	בְּשָׂר	אֲשֶׁר-	יִקְרִיבוּ	לְיהוָה	בְּאָדָם	וּבְבְהֵמָה
ہر	کھولنے-والا	رحم	تمام-کے-لیے	جسموں	جو	پیش-کریگے	یہوواہ-کو	آدمی-سے	اور-جانور-سے
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7358</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0929</a>	<a href="#">H0120</a>		

יְהוָה	לֵךְ	אֵךְ	פָּרָה	תְּפִירָה	אֵת	בְּכֹר	הָאָדָם	וְאֵת	בְּכֹר-	הַבְּהֵמָה	הַטְּמֵאָה
ہوگا	تیرے-لیے	لیکن	چھڑا	تو-چھڑائے	کو	پہلوٹھے	آدمی-کے	اور-کو	پہلوٹھے	جانور	ناپاک
<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0389</a>	<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1060</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1060</a>	<a href="#">H0929</a>	<a href="#">H2931</a>	

תְּפִירָה:  
تو-چھڑائے  
[H6299](#)

کر دے فدیہ کا پہلوٹھے کے جانور ناپاک ہر اور انسان ہر ٹو کہ ہے لازم لیکن ہے۔ ہی تیرا وہ ہے جاتا کیا پیش کو رب پہلوٹھا جو کا حیوان ہر اور انسان ہر چھڑائے۔ اُسے

וּפְדוּיָו	מִכּוֹר	חֹדֶשׁ	תְּפִלָּה	בְּעֶרְבּוֹ	כֶּסֶף	חֲמִשָּׁת	שְׂקָלִים	בְּשֶׁקֶל
اور-اُس-کے-چھڑائے-گئے	عمر-سے	مہینے	تو-چھڑائے	تیرے-اندازے-میں	چاندی	پانچ	شیقل	شیقل-کے-مطابق
<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H6187</a>	<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H8255</a>	<a href="#">H8255</a>
מִקְדָּשׁ	מָקָם	עֶשְׂרִים	יָרֵה	הוּא:				
مقدس-مقام-کے	بیس	گیرہ	یہ					
<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H6242</a>	<a href="#">H1626</a>	<a href="#">H1931</a>					

بو(گرام 11مطابق کے باٹوں کے مقدس وزن کا سیکے)بر دینا۔ سیکے پانچ کے چاندی عوض کے اُن تو بیس کے ماہ ایک وہ جب

אֶדָּה	בְּכוֹר	שׁוֹר	אֶז	בְּכוֹר	אֶז	לֹא	חֲפָדָה	קָדֵשׁ	הֵם
لیکن	پہلوٹھا	بیل	یا	پہلوٹھا	یا	نہیں	تو-چھڑائے	مقدس	وہ
<a href="#">H0389</a>	<a href="#">H1060</a>	<a href="#">H7794</a>	<a href="#">H1060</a>	<a href="#">H3775</a>	<a href="#">H1060</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H6299</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H1992</a>
אֶת	קו	אֶת	הַמִּזְבֵּחַ	וְאֶת	חֶלְבֵם	תַּקְטִיר	אִשָּׁה	לְרִיחַ	
کو	اُن-کا-خون	چھڑک	پر	اور-کو	اُن-کی-چربی	تو-جلا	اگ-کی-قربانی	خوشبو-کے-لیے	
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1818</a>	<a href="#">H2236</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2459</a>	<a href="#">H0801</a>	<a href="#">H7381</a>	<a href="#">H7381</a>	
	נִחֻחַ	לִיהוּה:							
	فرحت-بخش	یہوواہ-کے-لیے							
	<a href="#">H5207</a>	<a href="#">H3068</a>							

کی اُن اور دینا چھڑک پر گاہ قربان خون کا اُن بیس۔ مقدس و مخصوص وہ دینا۔ نہ معاوضہ یعنی فدیہ کا بچوں پہلے کے بھیڑبکریوں اور گائے بیلوں لیکن گی۔بو پسند کو رب قربانی ایسی دینا۔ جلا چربی

וּבְשָׂרָם	יְהִיהָ	לֶךָ	כַּחֲזָה	הַתְּנוּפָה	וּבְשׂוֹק	הִמְיוֹן	לֶךָ	
اور-اُن-کا-گوشت	بوگا	تیرے-لیے	سینے-کی-طرح	بلانے-کی-قربانی-کے	اور-ران-کی-طرح	داہنی	تیرے-لیے	
<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H2373</a>	<a href="#">H8573</a>	<a href="#">H7785</a>	<a href="#">H3225</a>	<a href="#">H3225</a>	<a href="#">H3225</a>	
	יְהִיהָ:							
	بوگا							
	<a href="#">H1961</a>							

ہیں۔لئے تمہارے بھی ران دہنی اور سینہ کا قربانی والی بلانے جیسے ہو، لئے تمہارے ہی ویسے گوشت کا اُن

וְכָל	תְּרוּמָת	הַקֹּדְשִׁים	אֲשֶׁר	יְרִמּוּ	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	לִיהוּה	נִתְּנִי	לֶךָ
تمام	بدیے	مقدس-چیزوں-کے	جو	اُٹھائیں گے	بیٹے	اسرائیل-کے	یہوواہ-کے-لیے	میں-نے-دیا	تجھے
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8641</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H5414</a>
וּלְבִנְיָה	וּלְבִנְיָה	وּלְבִנְיָה	אֶתָּה	לְחֶק	עוֹלָם	בְּרִית	עוֹלָם	עוֹלָם	
اور-تیرے-بیٹوں-کے-لیے	اور-تیری-بیٹیوں-کے-لیے	اور-تیری-بیٹیوں-کے-لیے	تیرے-ساتھ	قانون-کے-طور-پر	ابدی	عہد	نمک-کا	ابدی	
<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H2706</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H4417</a>	<a href="#">H5769</a>	
הוּא	לְפָנַי	יְהוּה	לֶךָ	וּלְזֶרְעֶךָ	אֶתָּה:				
یہ	سامنے	یہوواہ-کے	تیرے-لیے	اور-تیری-نسل-کے-لیے	تیرے-ساتھ				
<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2233</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H0854</a>				

عہد دائمی کا نمک یہ ہے۔ دیا تجھے لئے کے ہمیشہ اُسے نے میں ہیں۔ حصہ کا بیٹیوں بیٹے تیرے اور تیرا قربانیاں والی اُٹھانے تمام سے میں قربانیوں مقدس ہے۔ کیا قائم ساتھ کے اولاد تیری اور تیرے نے میں جو ہے

וַיֹּאמֶר	יְהוּה	אֶל-	אֶהְרֹן	בְּאַרְצָם	לֹא	תִּנְחַל	וְחֶלֶק	לֹא-	יְהִיהָ
اور-کہا	یہوواہ-نے	سے	بارون	اُن-کی-سرزمین-میں	نہیں	میراث-پائے گا	اور-حصہ	نہ	بوگا
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5157</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1961</a>
לֶךָ	בְּתוֹכָם	אֲנִי	חֶלְקֶךָ	וּנְחֻלָּתָךְ	בְּתוֹךְ	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל:	ס	
تیرے-لیے	اُن-کے-درمیان	میں	تیرا-حصہ	اور-تیری-میراث	درمیان	بیٹیوں-کے	اسرائیل	س	
<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3478</a>	

تیرا ہی میں درمیان کے اسرائیلیوں کیونکہ گا، جائے دیا نہیں حصہ کوئی تجھے میں اسرائیل گا۔ پائے نہیں زمین میں میراث [ ] تو کہا، سے بارون نے رب ہوں۔میراث تیری اور حصہ



حصہ دسواں کا اس تم کہ بے لازم گی۔ ہو وراثت تمہاری سے طرف کی رب یہ گا۔ ملے حصہ دسواں کا پیداوار کی اسرائیلیوں تمہیں کہ بتانا کو [لاویوں کرو۔ پیش پر طور کے قربانی والی اُٹھانے کو رب

27 **וּנְחֹשֶׁב** **לְכֶם** **תְּרוּמַתְכֶם** **כֶּדָּנֹן** **מִן־הַזָּרִין** **וּכְמִלְאָה** **מִן־הַיָּקָב:**  
اور-گنا-جائے گا تمہارے-لیے تمہارا-بدیہ غلے-کی-طرح سے کھلیان اور-بھریوں-کی-طرح سے حوض  
H2803 H8641 H1715 H1637 H4395 H3342

گی۔ جائے دی قرار برابر کے قربانی کی رس کے انگور نئے یا اناج نئے قربانی یہ تمہاری

28 **כֵּן** **תְּרִימוּ** **נֶם־** **אֶתֶם** **תְּרוּמַת** **יְהוָה** **מִכֹּל** **מֵעֲשֶׂרְתִּיכֶם** **אֲשֶׁר** **תִּקְחוּ** **מֵאֶת**  
ایسے اُٹھاؤ گے بھی تم بدیہ یہوواہ-کا تمام-سے تمہارے-دسویں-حصوں جو تم-لو گے سے  
H1571 H8641 H3068 H3605 H4643 H3947 H0854

**בְּנֵי** **יִשְׂרָאֵל** **וּנְתַתֶּם** **מִמֶּנּוּ** **אֶת־** **תְּרוּמַת** **יְהוָה** **לְאַהֲרֹן** **הַכֹּהֵן:**  
بیٹوں-کے اسرائیل اور-دینا اُس-میں-سے کو بدیہ یہوواہ-کا بارون-کو کابن  
H3478 H5414 H0853 H8641 H3068 H0175 H3548

دینا۔ کو امام بارون قربانی یہ لے کے رب گے۔ کرو پیش قربانی والی اُٹھانے سے میں حصے دسویں کے پیداوار کی اسرائیلیوں کو رب بھی تم طرح اس

29 **מִכֹּל** **מֵתְנַתִּיכֶם** **תְּרִימוּ** **אֶת** **כָּל־** **תְּרוּמַת** **יְהוָה** **מִכֹּל־** **חֶלְבֹו** **אֶת־**  
تمام-سے تمہارے-تحفوں اُٹھاؤ گے کو تمام بدیہ یہوواہ-کا تمام-سے اُس-کی-چربی کو  
H3605 H4979 H0853 H3605 H8641 H3068 H3605 H2459 H0853

**מִקְדָּשׁוֹ** **מִמֶּנּוּ:**  
اُس-کی-مقدس-چیز اُس-میں-سے  
H4720

دینا۔ کو رب حصہ مقدس اور اچھا سے سب سے میں اُس بے ملا تمہیں بھی جو

30 **וְאֶמְרַת** **אֲלֵהֶם** **בְּהַרְיִמְכֶם** **אֶת־** **חֶלְבֹו** **מִמֶּנּוּ** **וּנְחֹשֶׁב** **לְלוּיִם**  
اور-کہہ اُن-سے تمہارے-اُٹھانے-پر کو اُس-کی-چربی اُس-میں-سے اور-گنا-جائے گا لاویوں-کے-لیے  
H0559 H0413 H0853 H2459 H1637 H2803 H3881

**כְּתוּבֹאת** **זָרִין** **וּכְתוּבֹאת** **יָקָב:**  
پیداوار-کی-طرح کھلیان-کے اور-پیداوار-کی-طرح حوض-کے  
H8393 H1637 H8393 H3342

گا۔ جائے دیا قرار برابر کے قربانی کی رس کے انگور نئے یا اناج نئے اُسے تو گے کرو پیش حصہ اچھا سے سب کا اس تم جب

31 **וְאֶכְלֶתֶם** **אֹתוֹ** **בְּכָל־** **מְקוֹם** **אֶתֶם** **וּבִיתְכֶם** **כִּי־** **שָׂכַר** **הוּא** **לְכֶם**  
اور-کھاؤ اُسے ہر-کسی-بھی جگہ تم اور-تمہارے-گھروں کیونکہ اجرت یہ تمہارے-لیے  
H0398 H0853 H3605 H4725 H0853 H7939 H1931

**חֶלְו** **עֲבַדְתֶּכֶם** **בְּאֶהֱל** **מוֹעֵד:**  
بدلے-میں تمہاری-خدمت-کے خیمے-میں ملاقات-کے  
H2500 H5656 H0168 H4150

بے۔ اجر کا خدمت تمہاری میں خیمے کے ملاقات یہ کیونکہ ہو، سکتے کھا بھی کہیں حصہ باقی کا اس سمیت گھرانوں اپنے تم

32 **וְלֹא־** **תִּשְׂאוּ** **עָלָיו** **חֹטֵא** **בְּהַרְיִמְכֶם** **אֶת־** **חֶלְבֹו** **מִמֶּנּוּ** **וְאֶת־** **קְדָשׁוֹ**  
اور-نہ اُٹھاؤ گے اُس-پر گناہ تمہارے-اُٹھانے-پر کو اُس-کی-چربی اُس-میں-سے اور-کو مقدس-چیزوں  
H3808 H5375 H2399 H0853 H4150 H0853 H6918

**בְּנֵי־** **יִשְׂרָאֵל** **לֹא** **תַחֲלִלוּ** **וְלֹא** **תִּמְוֹתוּ:** **פ**  
بیٹوں-کے اسرائیل نہیں ناپاک-کرو گے اور-نہ مرو گے  
H3478 H3808 H4191

تم قربانیاں مقدس و مخصوص کی اسرائیلیوں پھر گا۔ ہو نہیں قصور کوئی تمہارا میں کھانے اسے پھر تو ہو کیا پیش حصہ بہترین کا اس پہلے نے تم اگر گے۔ [مرو نہیں تم اور گی جائیں ہو نہیں ناپاک سے